

# Child Health Plus

## ایک نظر میں



### کون اہل ہے؟

بچے جو:

- 19 سال سے کم عمر کے ہوں
- نیو یارک اسٹیٹ کے باشندے ہیں
- Medicaid کے لیے اہل نہ ہوں
- دیگر صحت بیمہ کے ذریعہ محیط نہ ہوں
- ریاستی صحت کی مراعات والے پروگرام (NYSHIP) کے ذریعہ صحت کوریج کے لیے اہل یا اس میں اندراج یافتہ نہ ہوں
- بچے ترک وطنی کی حیثیت سے قطع نظر اہل ہو سکتے ہیں

### کیا چیز محیط ہے؟

- ویل چائلڈ والی ملاقاتیں
- جسمانی معائنے
- مامونیتی ٹیکے
- لیب اور تصویر نگاری کی خدمات
- ہنگامی خدمات
- نسخے والی دوائیں
- بغیر نسخے والی دوائیں، اگر معالج نے آرڈر کیا ہو
- ان پشینٹ ہسپتال کی نگہداشت
- قلیل مدتی معالجاتی آؤٹ پشینٹ کی خدمات (کیموتھیراپی، بیمو ڈائلیس)
- ان پشینٹ اور آؤٹ پشینٹ کی ذہنی صحت اور مادہ کے استعمال کے عارضہ کی خدمات
- دانت اور بینائی کی خدمات
- گویائی اور سماعت کی خدمات
- پائیدار طبی آلات
- شفا خانہ

ہم سے رابطہ کریں:

TTY 1-800-662-1220 یا [nystateofhealth.ny.gov](http://nystateofhealth.ny.gov) | 1-855-355-5777

NY State of Health قابل اطلاق وفاقی دیوانی حقوق کے قوانین اور ریاستی قوانین کی تعمیل کرتا ہے اور نسل، رنگ، قومی بنیاد، مسلک/مذہب، جنس، ازدواجی/کنہ جاتی حیثیت، معذوری، گرفتاری کے ریکارڈ، مجرمانہ سزا باہی (سزا یا بیوں)، صنفی شناخت، صنفی رجحان، ثانوی جینیاتی خصوصیات، فوجی حیثیت، خانگی تشدد کے متاثر کی حیثیت اور/یا انتقام کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کرتا ہے۔

## CHILD HEALTH PLUS پلان پر کتنی لاگت آتی ہے؟

**مابانہ پریمیمز:** مابانہ قیمت گھرانے کی آمدنی اور سائز پر منحصر ہوتی ہے۔\* کم آمدنی والے خاندانوں کے لیے کوئی مابانہ پریمیم نہیں ہے۔ زیادہ آمدنی والے خاندان ذیل کے چارٹ کے مطابق، ایک مابانہ پریمیم ادا کرتے ہیں۔ بڑے خاندانوں کے لیے، مابانہ فیس تین بچوں تک محیط ہے۔ مراعات یافتہ کوریج کی سطح سے اوپر آمدنی والے خاندان پورا پریمیم ادا کر سکتے ہیں، جو شرکت کنندہ صحت منصوبے کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔

**لاگت میں حصہ داری:** Child Health Plus میں کوئی سالانہ کٹوتی اور کوئی ضمنی ادائیگی نہیں ہے۔

مابانہ کنبہ جاتی تعاون فی بچہ (زیادہ سے زیادہ جتنے بچوں کے لیے آپ ادا کرتے ہیں ان کی تعداد 3 ہے)	خاندان کے سائز کے لحاظ سے زیادہ سے زیادہ سالانہ آمدنی			
	4	3	2	1
\$0	\$41,200 سے کم	\$34,128 سے کم	\$27,056 سے کم	\$19,984 سے کم
\$9 (زیادہ سے زیادہ \$27)	\$57,165	\$47,353	\$37,541	\$27,728
\$15 (زیادہ سے زیادہ \$45)	\$64,375	\$53,325	\$42,275	\$31,225
\$30 (زیادہ سے زیادہ \$90)	\$77,250	\$63,990	\$50,730	\$37,470
\$45 (زیادہ سے زیادہ \$135)	\$90,125	\$74,655	\$59,185	\$43,715
\$60 (زیادہ سے زیادہ \$180)	\$103,000	\$85,320	\$67,640	\$49,960
پورا پریمیم، صحت منصوبے کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے	\$103,000 سے اوپر	\$85,320 سے اوپر	\$67,640 سے اوپر	\$49,960 سے اوپر

2019 کے وفاقی سطح افلاس (Federal Poverty Levels, FPL) کی بنیاد پر۔ آمدنی کی سطحیں ہر سال FPL کے لحاظ سے ایڈجسٹ کی جا سکتی ہیں۔